




سمندری کچھوٹن کی شناخت کے کارڈ



بھرہند کی ماہی گیری کے لئے

Flatback turtle

(*Natator depressus*)



ہموار پشتو کھوا

اوسط لمبائی: ۴۰ سنتی میٹر

اوسط وزن: ۷۰ کلوگرام

رُنگ: سرمی سے زیتونی۔ بُزخوں، بازو اور دم کے نچلے حصے زرد یا سفیدی مائل رنگ کے
غذا: سمندری کھرے، قشريے اور دیگر غیر قشريے

درجہ: IUCN: محدود معلومات، CITES: اضافت۔ I (Appendix-I)

(یعنی الائقی تجارت اور ترکیل منوع)



Photo: Dr Colin Limpus

Flatback turtle


(*Natator depressus*)

ایک جو زائل با تھاچانے



حد ممکنی: ۱۰۰ اسٹانڈی میٹر

حدوزن: ۸۵ کلوگرام



خول:

چار جوڑے صدری کھرے،

پہلا جوڑ افقائی کھرے سے

جڑا ہوئیں؛ جانی کتارے

قدرے اور پی طرف مڑے ہوئے

FAO

FBT

PREFRONTAL

NUCHAL

COSTAL

VERTEBRAL

LATERAL

Loggerhead turtle

(*Caretta caretta*)



گاؤڈی کچوڑا

اوسط لمباي: ۱۰۰-۱۶۰ سینٹي میٹر

اوسط وزن: ۱۱۰ کلوگرام

رُنگ: سرخی مائل بھورے سے نارنجی مائل بھورا خوں

غذا: قشريے، صدفيئے، پھجلي اور خارچشي

درجہ: IUCN (خطرے میں)، CITES: اضافت-I (Appendix-I)

(بین الاقوامی تجارت اور ترستیل منوع)



Photo: World Wildlife Fund

Loggerhead turtle

(*Caretta caretta*)



: خوں

پانچ جگہ سے صدری کھرے،
پہلا جزو اتفاقی کھرے سے
گراہوا

PREFRONTAL

NUCHAL

COSTAL

VERTEBRAL



Hawksbill turtle

(*Eretmochelys imbricata*)



شکرے کی چوٹی کھوا

اوسط لمبائی: ۹۰ سینٹی میٹر اوسط وزن: ۶۰ کلوگرام

رُنگ: سرخی مائل بھورے سے تارچی خول، بھورے اور کالے نشانات کے ساتھ؛ سر کے چانے اور بازو گہرے، ہلکی رنگین پیسوں سے جدا؛ دم بازوؤں کے نعلے حصے بہت زیادہ گہرے زرد
غذا: نرم موگلے، قشریے اور میہ


درجہ: IUCN: انتہائی خطرے سے دوچار، CITES: اضافیت-I (اضافیت-I)
(میں الاؤئی تجارت اور تسلیم منوع)



Photo: Dr Colin Limpus

Hawksbill turtle

(*Eretmochelys imbricata*)



PREFRONTAL

NUCHAL

COSTAL

VERTEBRAL



Leatherback turtle

(*Dermochelys coriacea*)



سنگ پشت کچوہا

اوسمی طبقی: ۷۰۰ اسٹنٹی میٹر

اوسمی وزن: ۲۵۰ کلوگرام (۹۱۸ کلوگرام تک ریکارڈ)

رُنگ: کمر (کاڈب خول) اور پورا جسم: گہرائیلا ہٹ مائل سیاہ، سفید جبوں کے ساتھ

غذا: عام طور پر لگارہ لیکن صد فیئر، سمندری چھاڑیاں یا پودے بھی

درجہ: IUCN: انتہائی خطرے سے دوچار، CITES: اضافیت - A (یعنی الاقوامی تجارت اور تریمل منوع)




Photo: Vincent Liardet

Leatherback turtle


(*Dermochelys coriacea*)

مرپو کوئی چانے نہیں



حد بلائی: ۲۲۰ سینٹی میٹر

حد وزن: ۹۲۰ کلوگرام



کر (کاذب خول):

چانے نہیں (سادہ طور پر ایک قسم کے
پھرے سے ڈھکا ہوا اور ساتھ طویل
ابھار سے منقسم)



Olive ridley turtle

(*Lepidochelys olivacea*)



ریتوںی کھوڑا

اوسط لمبائی: ۷۰ سینٹی میٹر اوسط وزن: ۲۵ کلوگرام

رنگ: خول اور بازوؤں کے نچلے حصے بزرے گہرے بخورے مائل بیڑا: بازوؤں کے اوپری حصے اور گردان سر مائل بیڑا۔ خول تقریباً لمبائی کے پر ابر چڑا

غذا: قشريے، صد فیٹے، لیگارہ، بہت ہی کم سمندری جھاڑی اور پودے

درجہ: IUCN: زوپری، CITES: اضافیت-I (Appendix-I)

(میں الاقوامی بجارت اور تسلیم منوع)



Photo: Dr Colin Limpus

Olive ridley turtle

(*Lepidochelys olivacea*)

دو جوڑا قبائل ماتھا جانے



خول:
پانچ یا زیادہ جوڑے صدری کھرے
(ضروری نہیں کہ دونوں طرف
تعداد یکساں ہو)،
پہلا جوڑا قبائل کھرے سے جزا ہوا

PREFRONTAL

NUCHAL

COSTAL

VERTEBRAL



Green turtle

(*Chelonia mydas*)

بُز کھوڑا

اوسط لمبائی: ۱۰۰-۱۵۰ سینٹی میٹر اوسط وزن: ۱۲۵ انکلوگرام

رُنگ: زیتونی۔ بُز خول، بلوفت میں سیاہ دھیلوں کے ساتھ ($>90\text{cm}$)؛ نوجیز میں ایسٹ سارخ، پچھوڑھاریوں کے ساتھ؛ پیدائش کے وقت خول اور بازوں میلے ایسیاہ، شید کاروں کے ساتھ

غذا: بالغ: بُزی خور (نبات خور)؛ نوجوان: عام طور پر گوشت خور (چھوٹے قشریے، اور صد فینے اور دیگر غیر قاریے)

درجہ: IUCN: خطرے سے دوچار، CITES: اضافت-I (Appendix-I)


(میں الاؤ ای تجارت اور ترکیل منوع)



Photo: Vincent Liardet

Green turtle

(*Chelonia mydas*)



خوب:

چار جوڑے صدری کھرے،
پہلا جوڑ اقبائی کھرے سے
جڑا ہوئیں:

ایک جوڑ اقبائی ماتھا چاٹنے



حد میاہی: ۱۲۰ اسٹنٹی میٹر

حد وزن: ۲۵۰ کلوگرام

PREFRONTAL
NUCHAL
COSTAL
VERTEBRAL



کنڈی میں پھنسے ہوئے کچھوں کی رہائی

اگر کوئی کچھوا کپڑا جائے تو اس کے مکمل بچاؤ کے لئے درج ذیل اقدامات کیئے جائیں

A

کچھے کی جسمات کا اندازہ کریں



اگر یہ اندازہ کر دیں یا اگر وہ پہنچا جائے تو پھنسی ہوئی
ذوری کوکھے کے لئے چاقو یا gaff کا استعمال کریں

Dip net سے کٹی پر پھونٹے
سادہ لٹائیں

B

کچھے کے من میں ایک لکڑی کا گلہ ادا کر دیں تاکہ وہ کاٹ سکے



اگر کنڈی تھر آ رہی ہے اسی توک کا کاٹ دیں اور کب کو
ٹھال دیں یا کنڈی کا نائلہ والا آل استعمال کریں

اگر ذوری کوٹنے کا تریب سے کاٹ سکے
اکی ذوری کوٹنے کا تریب سے کاٹ سکے

C

ہار کرنے سے پہلے کچھے کی حالت کا قیمتیں کریں اس بات کا اندازہ کریں کہ وہ کس حد تک چاندار ہے

کٹتی پر اسے کم کے چار گھنے یا چھوٹے سے بھی رکھیں



پہلے ہار دوں کو کٹتی کے گوشے سے بھی سختی مبتدا پر رکھیں
تاکہ بھرپروں سے پانی کا لگ جائے



کچھے کو سایہ اور جگہ پر رکھیں اور اسے بھی
تلے سے الحک دیں

D

کچھے کی اقسام کو بچانے کی کوشش کریں
اور بھرا ہیا کے ساتھ سے پانی میں پھرپڑ دیں



E

روز نامہ میں اس تمام ہماری عمل کا
اندرائیگرنس اور اپنے ماہی گیری
کے حیثیت پر مطلع کریں



MARINE TURTLE ASIAN NAMES

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 平背游龟 | 綠海龟 | 玳瑁 | 棱皮龟 | 蠵龟 | 丽龟 | | | | | | |
| 남자등바다 거북 | 녹색 바다 거북 | 매부리 바다 거북 | 장수 바다 거북 | 늙은 바다 거북 | 꼬마 바다 거북 | | | | | | |
| Penyu pungeung rata | Penyu hijau | Penyu sisik | Penyu belimbing | Penyu anjing, penyu kepala besar, penyu kakakua | Penyu lumpur | | | | | | |
| ヒラタウミガメ | アオウミガメ | タイマメ | オサガメ | アカウミガメ | ヒメウミガメ | | | | | | |
| Bildog, Kauan, Payukan, Puduo, Tabugen, Tortuga, Tuod. | Karabon, Sisik, Siikan, Ulinaban, Manahanga | Abi labi, Balimbing, Bererican, Kantuhuan, Kulod | Bulawon, Garanga | Kalady, Lambangan, Latun, Lunok, Mukoy | | | | | | | |
| 平背龜 | 綠蠵龜 | 玳瑁 | 赤蠵龜 | 櫻蠵龜 | | | | | | | |

سمندری کچوے خطرے سے دوچار انواع ہیں

ماحولیات:

- سمندری کچوے سمندروں میں تقریباً سو لین سال سے رہ رہے ہیں۔
- سمندری کچوؤں کی شناخت شدہ سات انواع میں سے چھ بھرہند میں پائی جا سکتی ہیں۔
- سمندر میں کئی دہائیاں گزارنے کے بعد مادہ واپس اسی ساحل کی طرف آتی ہیں جہاں پران کی پیدائش ہوئی تھی اور وہاں پر تن سے چار کامیاب کوششوں میں کئی درجن اثرے دیتی ہیں۔
- انواع پریمی تقریباً 90-45 کی بیضانت کے بعد نوزادیہ کچوے بل سے کل کر سمندر میں چلتے جاتے ہیں۔
- ہزار میں سے صرف ایک نوزادیہ کچوے بالغ عمر کو پہنچتا ہے۔ قدرتی اموات کی شرح بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سمندر میں ملنے والا ہر انفرادی کچوہ انتہیت کا حامل ہے۔
- سمندر میں کچوؤں کی غذائی اقسام کی ہوتی ہیں جو کہ ان کی نوع پر منحصر ہے جن میں لنگارہ، سمندری گھاس، اسٹن، موٹگے، غیر فقاریے اور محچلیاں شامل ہیں۔

سمندری کچوؤں کو لاحق خطرات:

- تجارتی مایگری کے آلات جن میں باہر (اوڈوسارپی) یا Pelagic جال اور تیرنے والے محلی تجمع کرنے والے آئے شامل ہیں حادثاتی اموات کا سبب بنتے ہیں۔
- زہریلے فضلوں کو نکتے سے جن میں پلاسٹک، Polystyrene، سگریٹ کے فلم وغیرہ
- گوشت، اٹھوں اور خول کا غیر قانونی شکار
- ترقیاتی کاموں کی وجہ سے اثرے دینے کی بجهوں کا خیال

ان کے تحفظ کے کام میں حصہ بھیجئے

اگر آپ ایک تجارتی ماہی گیری کی سشی پر ہیں:

- سمندری کچوؤں کے حادثاتی ٹکار کوم کرنے کے لئے ماہین کی رائے پر عمل کریں۔
- اگر آپ نے حادثاتی طور پر سمندری کچوؤں کو کچڑلایا ہے تو اسکے بچاؤ کے لئے بہترین سنتیک کا استعمال کریں تاکہ وہ اس سمندر میں چانے کے بعد اسکی بہتا کے موقع پر بڑھ سکیں۔
- کچوؤں کی انواع کی پیچان کے لئے ان کا روز کا استعمال کریں، اپنے روزنامے میں اسکا اندرج کریں اور اپنے ماہی گیری کے عکس کو مطلع کریں تاکہ وہاں معلومات جمع کرنے میں آسانی ہو۔
- کچوؤے کے بازو پر یا کسی اور tag کو چیک کریں۔ tag کا نمبر، تاریخ اور پکڑنے کا مقام نوٹ کریں۔ اگر ممکن ہو جانور کو آزاد کرنے سے پہلے اسکی ایک تصویر بنائیں اور یہ معلومات tag پر درج پئے پر ارسال کریں۔

اگر آپ کچوؤے کے اٹھ دینے والی جگہ پر ہوں:

- بالغ کچوؤں کو ٹکر کریں کیونکہ یہ اٹھ دینے ساحل پر آتے ہیں۔ ان سے فاصلے پر ہیں اور ان پر روشنی نہ ڈالیں ورنہ یہ اس مقام کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اگر آپ تصویر بنانا چاہتے ہیں تو جب جانور اٹھ دینے لگے تو بغیر فلیش کے تصویر بنائیں۔
- کچوؤں یا ان کے اٹھوں کو نہ چھوئیں۔
- اگر آپ ساحل پر کچوؤں کے نوازیدہ بچوں کو دیکھیں تو انہیں نہ کڑیں چونکہ یہ سمندر کی طرف جاتے ہیں۔
- کتوں کو دور رکھیں، یہ ان کے سب سے مکمل ٹکاری ہیں۔

میان الاقوامی اور اقوامی حفاظتی اقدامات

- خلرے سے دوپھار انواع کی میان الاقوامی تجارت پر Convention سمندری پکھوڑیں کی ساتھ انواع کی میان الاقوامی تجارت کو مغلظ کرتی ہے
- Indian Ocean Marine Turtle MoU (IOSEA) اور Convention on Migratory Species (CMS) رکن ممالک سے توافق ہے کہ وہ مقامی حفاظتی پروگرام لاگو کریں گی اور باہمی حفاظتی پروگرام میں تعاون کریں گی
- بہت سے ممالک نے اپنے قوانین کے ذریعے پکھوڑیں کے شکار اور فروخت یا مقامی خوداک کے طور پر استعمال پر پابندی لائی ہے

سمندری پکھوڑی کے لئے IOTC کے ضروری تقاضے

- درج ذیل میں IOTC کے حفاظتی اور انصرافی کے تحت مانی گئی مصروفیں پر لازم ہے کہ ان باتوں پر عمل کریں
- مصروف ایسا گیروں کو کسی سمندری پکھے سے باہمی عمل کی صورت میں تاریخ اور مقام درج کرنے پر جاہاں و متعلقہ عمل برداشتکار پورث کرے
 - مصروف ایسا گیروں کو پکھوے کو زندہ اور صحیح حالت میں آزاد کرنے کے لئے ہرگز ان کو شکست کرنی ہے
 - سنگل (long line) پر موجود مصروف ایسا گیر لقین دہانی کریں کہ کچھی پر سنگل کو کاشنے والا آلات موجود ہے De-hooker
 - کترے (purse seine) کشتبیں کو چاہیے کہ سمندری پکھوڑی کو کٹانے سے احتساب کریں اور FAD کے ان ذیجن ائن کو استعمال کریں جن سے سمندری پکھوڑی کے پختے کو کم کیا جائے

سمندری پکھوڑی کی مزید معلومات کے لئے:

- IOSEA Marine Turtle MoU: www.ioseaturtles.org
- KELONIA observatory of marine turtles: www.kelonia.org
- IUCN: www.iucnredlist.org / www.iucn-mtsg.org



سمندری پھوؤں کی شناختی کلید

خول
کمہرے نہیں
پانچ داش ایمار
پنکل نہیں

خول
بڑے کھرے
کوئی سلسلہ ایمار نہیں
ہراز دوؤں پر پنکل



Dermochelys coriacea
(Leatherback turtle)
(Tortue luth)

چار جزو سے صدری کھرے



پانچ جزو سے صدری کھرے
سزاویاں کی خول، تراشی ہوئی پشت کے ساتھ
سرگفتہ سرخی مائل پھورے سے بھورا



چھ جزو سے صدری کھرے
خول - اداز روی
سرگفتہ سرخی بہرے



Caretta caretta
(Loggerhead turtle)
(Tortue caouanne)

Lepidochelys olivacea
(Olive ridley turtle)
(Tortue olivâtre)

دو جزو سے قلیل باقاعدائی
چھاؤ رکھرے
ہر ہراز دو پر دو پنکل



Eretmochelys imbricata
(Hawksbill turtle)
(Tortue imbriquée)

ایک جزو قلیل باقاعدائی
چھاؤ رکھرے نہیں
ہر ہراز دو پر ایک پنکل



Chelonia mydas
(Green turtle)
(Tortue verte)

پھوؤں کے پچانے کے لیے کارڈ انٹرین اوشن ٹرننگ کمیشن (Indian Ocean Tuna Commission-IOTC) اور پیونک کیونی سکریٹریٹ کے تحت شائع کیجئے جانے والے آگاہی مواد کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جس کا مقصد کشتیوں کے فکار کردہ جاؤ اور جو کہ IOTC کے افراہ کے تحت آتے ہیں اور سمندری پھوؤں کے درمیان بآہی عمل کے مطابق کرنے کے عمل میں بہتری لائی جاسکے۔



اس کی اشاعت WWF اور IOTC کے بآہی تعاون کے ذریعے مکمل ہو سکی۔

مزید معلومات کے لئے رابطہ کریں:

انٹرین اوشن ٹرننگ کمیشن

لی جنینگر مال

پی او بی کس ۱۰۰، کٹوریا، سیہل

فون: +248 422 43 64

ویب سائیٹ: www.iotc.org

فون: +248 422 54 94

ایمیل: secretariat@iotc.org

اردو ترجمہ:

محمد معظم، مسرت اعین، زلیخا کنوں

ڈبلیوڈبلیوائیف - پاکستان

کراچی، پاکستان

اعتراف: ہم KELONIA اور IFREMER، Secretariat of the IOSEA MoU کے انجمنی ملکوں ہیں
کہ انہوں نے سمندری پھوؤں کی شاخخت کے کارڈ بنانے میں تعاون کیا۔

©Copyright: IOTC and SPC, 2011. Graphics and layout: Jipé Le-Bars.

IOTC version: Julien Million